

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالِي	ثَمُودَ	أَخَاهُمْ	صَالِحًا	قَالَ
		ا خ و	ص ل ح	ق و ل
او طرفته	د ثمود ئی	د هغوی ورور	صالح علیه سلام (اولیزو)	هغه او وئیل
يَا قَوْمِ	اعْبُدُوا	اللَّهِ	مَا	مَنْ إِلَهٍ
ق و م	ع ب د	ا ل ه	ن گ م	ا ل ه
اے حُما قومہ	عبادت کوئ	د الله تعالیٰ	نشسته	خوک اله (برحق)
غَيْرُهُ	قَدْ	جَاءَتْكُمْ	يَبِيئَةٌ	مَنْ رَبِّكُمْ
غ ي ر		ج ي ا	ب ي ن	ر ب ب
د هغه نه علاوہ	بے شکہ	راغے ستاسو طرفته	بنکاره دلیل	ستاسو د رب د طرفته
هَذِهِ	نَاقَةٌ	اللَّهِ	لَكُمْ	آيَةٌ
	ن و ق	ا ل ه		ا ي ي
دا	او بنه ده	د الله	ستاسو دپاره	يوه نبنه
فَذَرُوهَا	تَأْكُلْ	فِي أَرْضٍ	اللَّهِ	وَلَا
و ذ ر	ا ک ل	ا ر ض	ا ل ه	
پس پریزدی دا	چه هغه خریزی/خوری	په زمکه کنب	د الله	او مه
تَمَسُّوهَا	بِسُوءٍ	فَيَأْخُذْكُمْ	عَذَابٌ	أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾
م س س	س و ا	ا خ ذ	ع ذ ب	ا ل م
تاسو لاس ور اوړی دے له	سره د بدی	کنی او به نیسی تاسو	عذاب	دردناک -

وَأَذْكُرُوا	إِذْ	جَعَلَكُمْ	خُلَفَاءَ	مِنْ بَعْدِ
ذ ك ر		ج ع ل	خ ل ف	ب ع د
او یاد کړی	چه کله	هغه جوړ کړی تاسو	جانشین	پس

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

عَادٍ	وَبَوَّأَكُمْ	فِي الْأَرْضِ	تَتَّخِذُونَ	مِنْ سُهُولِهَا
ع و د	ب و ا	أرض	أخ ذ	س ه ل
د عاد نہ	او ہغہ آباد کریں تاسو	پہ زمکہ کنیں	تاسو جوڑوئ	د دے د پستے خاورے نہ
قُصُورًا	وَتَنْحِتُونَ	الْجِبَالَ	بُيُوتًا	فَادْكُرُوا
ق ص ر	ن ح ت	ج ب ل	ب ي ت	ذ ك ر
محلونہ	او تاسو کنیں	د غرونونہ	کورونہ	پس یاد کریں
آلَاءِ	اللَّهِ	وَلَا	تَعْتُوا	مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾
ال و	الہ		ع ث و	ف س د
نعمتونہ	د اللہ	او مہ	تاسو فساد کوئ	فساد کولو والا -

قَالَ	الْمَلَأُ	الَّذِينَ	اسْتَكْبَرُوا	مِنْ قَوْمِهِ
ق و ل	م ل ا		ك ب ر	ق و م
اووئیل	سردارانو	ہغویں چا چہ	تکبر کرے وو	د ہغہ د قوم نہ
لِلَّذِينَ	اسْتَضَعِفُوا	لِمَنْ	آمَنَ	مِنْهُمْ
	ض ع ف		ا م ن	
ہغویں تہ ٹوک چہ	چہ کمزوری کنرلے کیدل	ہغویں تہ چہ	ایمان ئی را اورے وو	د ہغویں نہ
أَنْعَلَمُونَ	أَنَّ	صَالِحًا	مُرْسَلٌ	قَالُوا
ع ل م		ص ل ح	ر س ل	ق و ل
ایا تاسو علم لرئ	بے شکہ	صالح علیہ سلام	رالیزلے شوے دے	د خپل رب د طرفنہ ہغویں اووے
إِنَّا	بِمَا	أُرْسِلَ	بِهِ	مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾
		ر س ل		ا م ن
بے شکہ مونز	سرہ د ہغے چہ	ہغہ رالیزلے شوے دے	پہ ہغے باند	ایمان را اورے والا یو -

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

قَالَ	الَّذِينَ	اسْتَكْبَرُوا	إِنَّا	بِالَّذِي
قول		كبر		
اووئیل	هغه خلقو جا چه	تکبر اوکرو	بے شکہ مونز	پہ ہغہ خیز چه
آمَنْتُمْ	بِهِ	كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾		
آمن		كفر		
تاسو ایمان راوے دے!	د ہغہ نہ	انکار کولو والا یو -		

فَعَقَرُوا	النَّاقَةَ	وَعَتَّوْا	عَنْ أَمْرِ	رَبِّهِمْ
عقر	نوق	عتو	آمر	رب ب
پس ہغوی پریکرے پینے / پینسی	د اوہنی	او ہغوی سرکشی اوکرہ	د حکم نہ	د خیل رب
وَقَالُوا	يَا صَالِحُ	اِئْتِنَا	بِمَا	تَعِدُنَا
قول	صلح	آتی		وعد
او ہغوی اووے	اے صالح	راورہ حمونز طرفتہ	د خہ نہ چه	تہ ویروے مونز
إِنْ	كُنْتَ	مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾		
	كون	رسل		
کہ چرے	یے تہ	د رسولانو نہ -		

فَأَخَذَتْهُمُ	الرَّجْفَةُ	فَأَصْبَحُوا	فِي دَارِهِمْ
آخذ	رجف	صبح	دور
پس اونیول ہغوی	زلزلے	نو ہغوی شول	پہ خیلو کورونو کنبس
جَائِمِينَ ﴿٧٨﴾			
جثم			
پرمخے پراتہ -			

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

فَتَوَلَّى	عَنْهُمْ	وَقَالَ	يَا قَوْمِ	لَقَدْ
ولي		قول	قوم	
نو هغه مخ او کرخوؤ او روان شو	د هغوی نه	او اوئی وئیل	ایه حُما قومه	البتہ بے شکہ
أَبْلَغْتُكُمْ	رِسَالَةَ	رَبِّي	وَنَصَحْتُ	لَكُمْ
بلغ	رسل	رب ب	ن ص ح	
درسولے وو ما تاسو ته	پیغام	د خپل رب	او نصیحت او کرو ما	تاسو ته
وَلَكِنْ	لَا تُحِبُّونَ	النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾		
	ح ب ب	ن ص ح		
او لیکن	نه تاسو خوینوی	نصیحت کولو والا -		

وَلَوْطًا	إِذْ	قَالَ	لِقَوْمِهِ	أَتَأْتُونَ	الْفَاحِشَةَ
		قول	قوم	آتی	ف ح ش
او لوط علیه سلام (اولیزو)	چه کله	هغه اووے	خپل قوم ته	آیا تاسو راخی	بے حیایی ته
مَا	سَبَقَكُمْ	بِهَا	مِنْ أَحَدٍ	مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾	
	س ب ق		أ ح د	ع ل م	
نه ده	کری وړاند له تاسو نه	سره د دے	یو کس هم	د ټول جهان والو نه -	

إِنَّكُمْ	لَتَأْتُونَ	الرِّجَالَ	شَهْوَةً	مِّنْ دُونِ	النِّسَاءِ
	آتی	رجل	شهو	دون	ن س و
بے شکہ تاسو	البتہ تاسو راخی	سرو طرفته	د شهوت دپاره	علاوه	د بنحو نه
بَلْ	أَنْتُمْ	قَوْمٌ	مُسْرِفُونَ ﴿٨١﴾		
		قوم	س ر ف		
بلکه	تاسو	خلق یی	د حد نه وتلی -		

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

وَمَا	كَانَ	جَوَابَ	قَوْمِهِ	إِلَّا	أَنَّ
	كون	جواب	قون		
اونہ	وو	جواب	د ہغہ د قوم	مکر	دا چہ
قَالُوا	أَخْرَجُوهُمْ	مَنْ قَرَيْتَكُمْ	إِنَّهُمْ	أَنَاسٌ	
قول	خرج	قري		انس	
ہغوی اووے	اوباسی ہغوی	د خپل کلی نہ	بے شکہ ہغوی	داسیے خلق دے	
يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾					
طہر					
چہ پیر پاک جو ریزی -					

فَأَنْجَيْنَاهُ	وَأَهْلَهُ	إِلَّا	امْرَأَتَهُ	كَانَتْ
ن جو	اہل		مرأ	كون
پس خلاصیے و رکرو مونز ہغہ لہ	او د ہغہ کور والو لہ	سوا	د ہغہ د بنحی نہ	وہ ہغہ
مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾				
غبر				
د وروستہ پاتے کیدو والو نہ -				

وَأَمْطَرْنَا	عَلَيْهِمْ	مَطْرًا	فَانظُرْ	كَيْفَ	كَانَ
مرط		مطر	نظر	کیف	كون
او اوورولو مونز	پہ ہغوی باندر	باران	نو اوکوره	چہ خنکہ	شو
الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾					عَاقِبَةُ
جرم					عقب
د مجرمانو -					انجام

# د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ	أَخَاهُمْ	شُعَيْبًا ۗ	قَالَ	يَا قَوْمِ	اعْبُدُوا
ع بد	ا خو		ق ول	ق ول	ع بد
او طرفته د مدين	ورور د هغوی	شعیب علیہ سلام (اولیٰزوا)	هغه اووے	اے حُما قومہ	عبادت کوئی
اللَّهُ	مَا	لَكُمْ	مِّنْ إِلَٰهِ	غَيْرُهُ ۗ	قَدْ
ا لہ			ا لہ	غ یر	
د الله	نشستہ	ستاسو دپارہ	خوک الہ (برحق)	د هغه نہ سوا	بے شکہ
جَاءَتْكُمْ	بَيْنَهُ	مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ	فَأَوْفُوا	الْكَيْلَ	
ج ي ا	ب ي ن	ر ب ب	و ف ي	ك ي ل	
راغے ستاسو طرفته	بنکارہ دلیل	ستاسو د رب د طرفنہ	پس پورہ کوئی	ناپ	
وَالْمِيزَانَ	وَلَا	تَبْخُسُوا	النَّاسَ	أَشْيَاءَهُمْ	وَلَا
و ز ن		ب خ س	ن و س		
او تول	او مہ	تاسو کم ورکوئی	خلقولہ	خیزونہ د هغوی	او مہ
تُفْسِدُوا	فِي الْأَرْضِ	بَعْدَ	إِصْلَاحِهَا ۗ	ذَٰلِكُمْ	خَيْرٌ
ف س د	ا ر ض	ب ع د	ص ل ح		خ ي ر
تاسو فساد کوئی	پہ زمکہ کنیں	پس	د هغے د اصلاح نہ	دا	بہترہ دہ
لَّكُمْ	إِنْ	كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾		
		ك و ن	ا م ن		
ستاسو دپارہ	کچرے	یئ تاسو	مومنان -		

وَلَا	تَقْعُدُوا	بِكُلِّ صِرَاطٍ	تُوْعِدُونَ	وَتَصُدُّونَ
	ق ع د	ك ل ل ا ص ر ط	و ع د	ص د د
او مہ	تاسو کینبنئی	پہ ہرہ لارہ کنیں	تاسو ویروئی	او تاسو منع کوئی

## د قرآن نور

اتم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 73-87

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	مَنْ	أَمَّنَ	بِهِ	وَتَبِعُونَهَا
سب ل آلہ		آمن		ب غ ي
د اللہ د لارے نہ	ہغہ چہ	ایمان ئی را اورو	پہ ہغے	او تاسو تلاش کوئی پہ ہغے کنبی
عَوَجًا	وَأَذْكُرُوا	إِذْ	كُنْتُمْ	قَلِيلًا
عوج	ذکر		کون	قل ل
کوزوالے	او یاد کری	چہ کلہ	وی تاسو	نو ہغہ زیات کری تاسو
وَانظُرُوا	كَيْفَ	كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾
نظر	ک ی ف	کون	ع ق ب	فسد
او او کوئی	خنکہ	شو	انجام	د فساد کولو والو -

وَإِن	كَانَ	طَائِفَةٌ	مِّنْكُمْ	آمَنُوا
	کون	طوف		آمن
او کہ چرے	وی	یوہ پلہ	ستاسو نہ	چہ ایمان ئی را ورے وی
بِالَّذِي	أُرْسِلْتُ	بِهِ	وَطَائِفَةٌ	لَّمْ
	رسل		طوف	آمن
پہ ہغہ خہ چہ	رالیزلے شوے یم خہ	سرہ د ہغے	او یوہ پلہ	نہ
فَاصْبِرُوا	حَتَّىٰ	يَحْكُمَ	اللَّهُ	بَيْنَنَا
ص بر		ح ک م	آلہ	ب ی ن
پس صبر کوئی	تردے چہ	فیصلہ او کری	اللہ تعالیٰ	پہ مینخ کنبی خمونب
وَهُوَ	خَيْرٌ	الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾		
	خ ی ر	ح ک م		
او ہغہ	بہترین دے	پہ فیصلہ کولو والو کنبی -		

## د قرآن نور

نهم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 88-93

قَالَ	الْمَلَأَ	الَّذِينَ	اسْتَكْبَرُوا	مِنْ قَوْمِهِ
قول	ملا		كبر	قوم
اووئيل	سردارانو	هغوى چا چه	تکبر کرے وو/ لوی ئی کری وه	د هغه د قوم نه
لنُخْرِجَنَّكَ	يَا شُعَيْبُ	وَالَّذِينَ	آمَنُوا	مَعَكَ
خرج			امن	
البتہ مونز به ضرور اوباسو تا	اے شعيب	او هغوى چه	ايمان ئی راوړے دے!	سرہ ستا
مِنْ قَرِيْبِنَا	أَوْ	لَتَعُوْدَنَّ	فِي مِلَّتِنَا	قَالَ
قري		عود	ملا	قول
د خپل کلی نه	يا	البتہ ضرور به تاسو واپس کيژی	حُمونز په دين کښ	هغه اووئيل
أَوْلَؤُ	كُنَّا	كَارِهِيْنَ ﴿٨٨﴾		
	كون	کره		
آيا بنه که چرے	يو مونز	بد کنړلو والا -		

قَدْ	أَفْتَرَيْنَا	عَلَى اللَّهِ	كَذِبًا	إِنْ	عُدْنَا
	فري	آله	كذب		عود
بے شكه	ترلی به وی مونز	په الله باند	دروغ	که چرے	واپس شو مونز
فِي مِلَّتِكُمْ	بَعْدَ	إِذْ	نَجَّانَا	اللَّهُ	مِنْهَا
ملا	بعد		نحو	آله	
ستاسو دين ته	پس د دے نه	چه کله	خلاصے را کرو مونز له	الله تعالى	د دے نه
وَمَا	يَكُونُ	لَنَا	أَنْ	نَعُوْدَ	فِيهَا
	كون			عود	
اونه	دے (جائز)	حُمونز دپاره	چه	مونز واپس شو	په دے کښ



## د قرآن نور

### نہم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 88-93

إِلَّا	أَنْ	يَشَاءَ	اللَّهُ	رَبُّنَا	وَسِعَ
		شيءاً	ألہ	رب ب	وسع
مکر	دا چہ	او غواری	اللہ	چہ رب دے حُمونب	کیر کرے دے
رَبُّنَا	كُلِّ	شَيْءٍ	عِلْمَاءَ	عَلَى اللَّهِ	تَوَكَّلْنَا
رب ب	كل ل	شيءاً	علم	ألہ	وكل
حُمونب رب	هر	شے	د علم سرہ	ہم پہ اللہ باند	توکل کرے دے مونب
رَبَّنَا	افْتَحْ	بَيْنَنَا	وَبَيْنَ	قَوْمِنَا	
رب ب	فاتح	ب بين	ب بين	قوم	
اے حُمونب بہ	فیصلہ او کری	پہ مینخ کبن حُمونب	او پہ مینخ کبن	حُمونب د قوم	
بِالْحَقِّ	وَأَنْتَ	خَيْرُ	الْفَاتِحِينَ ﴿١٨٩﴾		
ح ق ق		خ ي ر	فاتح		
سرہ د حق	او تہ	بہتریے	د تولو فیصلو کولو والو نہ -		

وَقَالَ	الْمَلَأُ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	مِنْ قَوْمِهِ	لِئِنْ
قول	ملأ		كفر	قوم	
او او وئیل	سردارانو	چا چہ	کفر کرے وو	د ہغہ د قوم نہ	البتہ کہ چرے
اتَّبَعْتُمْ	شُعَيْبًا	إِنِّكُمْ	إِذَا	لَخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾	
تبع				خ سر	
اتباع او کرہ تاسو	د شعیب	بے شکہ تاسو بہ	بیا	البتہ د نقصان او چتولو والو نہ شیء -	

فَأَخَذَتْهُمُ	الرَّجْفَةُ	فَأَصْبَحُوا	فِي دَارِهِمْ	جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾
أخذ	رجف	صبح	دور	ج ث م
پس او نیول ہغوی	زلزلے	نو ہغوی سحر کرو	پہ خپلو کورونو کبن	پہ پرمخے مخونو -

## د قرآن نور

نهم جز - درس 92 : سورة الأعراف - آيات 88-93

الَّذِينَ	كَذَّبُوا	شُعَيْبًا	كَانَ	تَمَّ
	كذب			
هغوى چا چه	دروغ اوکنرو	شعیب علیه سلام	لکه چه	نه
يَعْنُوا	فِيهَا	الَّذِينَ	كَذَّبُوا	شُعَيْبًا
غني			كذب	
وو هغوى اوسیدلی	په هغه کنب	هغوى چا چه	دروغ اوکنرو	شعیب علیه سلام
كَانُوا	هُمْ	الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾		
کون		خسر		
وو	هغوى	د نقصان اوچتولو والو نه -		

فَتَوَلَّى	عَنْهُمْ	وَقَالَ	يَا قَوْمِ	لَقَدْ
ولي		قول	قوم	
نو هغه مخ اوکرخولو	د هغوى نه	او اوئی اووئیل	ایه حُما قومه	البته بے شکه
أَبْلَغْتُكُمْ	رِسَالَاتِ	رَبِّي	وَنَصَحْتُ	لَكُمْ
بلغ	رسل	ربب	نصح	
دررسولی دی ما تاسوته	پیغامونه	د خپل رب	او خیر خواهی اوکره ما	ستاسو
فَكَيْفَ	آسَى	عَلَى	قَوْمِ	كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾
	أسو		قوم	کفر
پس څنگه	حَه افسوس اوکریم	په داسی	خلقو	چه کافران دی -